

101112 - زانی اور کافر مرد و عورت کی اولاد کی نسبت

سوال

میں نے عورت کا اپنے خاوند کے نام کی طرف منسوب ہونے کے متعلق جواب پڑھا ہے اور میں یہ سمجھی ہوں کہ ایسا جائز نہیں، اب میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اگر کوئی عورت اسلام قبول کر لے اور وہ اصل میں اپنی والدہ کی طرف منسوب ہو تو کیا اس کے لیے ایسا جائز ہے کہ وہ خاوند کا نام اپنے ساتھ لگا لے؛ کیونکہ اس کی ولادت کے وقت اس کے والدین نے آپس میں شادی نہیں کی تھی، اور اس کے لیے والد کا نام اپنے ساتھ لگانا ممکن نہیں؛ کیونکہ وہ اب زندہ نہیں ہے۔؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

رسولوں پر اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ سب شریعتوں میں زنا حرام ہے، اور دین اسلام اسلام قبول نہ کرنے والے دوسرے ادیان کے لوگوں کا نکاح دو شرطوں کے ساتھ برقرار رکھتا ہے:

پہلی شرط:

وہ نکاح ان کی شریعت کے موافق ہو.

دوسری شرط:

وہ عقد کا معاملہ ہمارے پاس نہ لے کر آئیں.

شیخ اسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں:

" اصحاب مالك اور شافعی اور اصحاب احمد مثلاً قاضی ابو یعلیٰ اور ابن عقیل اور متاخرین نے بیان کیا ہے کہ کفار کے نکاح میں ان کی عادات کی طرف لوٹا جائیگا، جسے وہ آپس میں نکاح شمار کرتے ہوں جب وہ اسلام قبول کر لیں اور ہمارے پاس مقدمہ لے کر آئیں تو اس پر انہیں برقرار رکھنا جائز ہے، جبکہ وہ کسی ممانعت پر مشتمل نہ ہو، اور اگر وہ اسے نکاح نہ سمجھتے ہوں تو اسے برقرار رکھنا جائز نہیں " انتہی.

دیکھیں: مجموع الفتاوی (29 / 12).

اور شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں:

اگر شریعت اسلامیہ کے مطابق نکاح صحیح ہو تو وہ صحیح ہے، اور اگر - شریعت اسلامیہ کے اعتبار سے - نکاح فاسد ہو تو ان کا نکاح دو شرطوں کے ساتھ برقرار رہے گا:

پہلی شرط:

وہ اس نکاح کو اپنی شریعت میں صحیح سمجھتے ہوں۔

دوسری شرط:

وہ اسے ہمارے پاس نہ لائیں۔

اگر وہ اسے صحیح نہ سمجھیں تو خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی کرا دی جائیگی، اور اگر وہ اسے ہمارے پاس فیصلہ کے لیے لائیں تو ہم دیکھیں گے کہ اگر وہ عقد نکاح سے پہلے لائیں تو ہم اپنی شریعت کے مطابق عقد نکاح کرینگے، اور اگر عقد کے بعد ہو تو ہم یہ دیکھینگے کہ اگر عورت اس وقت مباح ہو تو ہم اس عقد کو برقرار رکھینگے، اور اگر مباح نہ ہو تو ہم ان دونوں کے درمیان تفریق کر دینگے۔

ان اشیاء کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کفار نے اسلام قبول کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی بیویوں کے ساتھ ہی باقی رکھا جو دور جاہلیت میں ان کی بیویاں تھیں، اور انہیں کچھ نہیں کہا، تو یہ اس کی دلیل ہے کہ اسے اصل پر باقی رکھا جائیگا۔ انتہی

دیکھیں: الشرح الممتع (12 / 239 - 240)۔

اور رہا زنا اور جسے دوستی کے تعلقات کا نام دیا جاتا ہے یہ سب کچھ ہماری اور ان کی شریعت میں باطل ہے، اور یہ اس غلط عادات کا نتیجہ ہے جو ان کے سلوک اور معاشرے میں پائی جاتی ہیں۔

مسلم شریف میں براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زنا کرنے والے یہودیوں کو رجم کرنے کا واقعہ مروی ہے، کہ کس طرح انہوں نے تورات میں تحریف کی اور اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کو کس طرح تبدیل کیا لیکن انہوں نے زنا کو مباح نہیں کیا بلکہ اس کی سزا میں تحریف کرتے ہوئے رجم کے بدلے اس کا چہرہ سیاہ کر کے کوڑے مارنے میں تبدیل کر دیا۔

صحیح مسلم حدیث نمبر (1700)۔

اور نصاریٰ کے ہاں بھی یہ اسی طرح ہے، جیسا کہ انجیل متی (19 / 18) میں درج ہے:

یسوع کا کہنا ہے: تم نہ تو قتل کرو، اور نہ ہی زنا کاری کے مرتکب ٹھرو، اور نہ ہی چوری کرو، اور نہ جھوٹی گواہی دو"

اور انجیل مرقس (10 / 19) اور انجیل لوقا (18 / 20) میں درج ہے: تم وصیت کو جانتے ہو: نہ تو زنا کا ارتکاب کرو، اور نہ ہی قتل کرو، اور نہ جھوٹی گواہی دو"

اس لیے ہم کہتے ہیں اگر تو یہ دونوں والدین شادی شدہ تھے - چاہے وہ عیسائیت یا یہودیت کا مذہب رکھتے تھے - تو ان کے نکاح کو برقرار رکھا جائیگا، اور ان کی بیٹی کو باپ کی طرف منسوب کیا جائیگا، لیکن اگر وہ بیٹی غیر موثوق عقد کے تعلقات سے پیدا ہوئی، بلکہ زنا کے تعلقات سے پیدا ہوئی ہو تو اسے زانی کی طرف منسوب نہیں کیا جائیگا، بلکہ وہ اپنی ماں کی طرف منسوب ہو گی جیسا کہ اب اس سوال میں اس لڑکی کا واقع ہے۔

اور ہماری شریعت مطہرہ میں سب علماء اس پر متفق ہیں کہ زنا کی اولاد کا زانی سے الحاق نہیں کیا جائیگا، جب تک کہ زانی اس کا الحاق طلب نہ کرے، بلکہ جمہور اہل علم تو یہ کہتے ہیں کہ اگر زانی چاہے بھی تو اسے زانی کی طرف منسوب نہیں کیا جائیگا۔

اور مسئلہ یہ نہیں کہ زانی اب بقید حیات نہیں - جیسا کہ سوال میں بیان ہوا ہے - بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ ان دونوں کے تعلقات شادی والے نہ تھے اور اس غلط تعلقات کے نتیجہ میں وہ بچی پیدا ہوئی تھی۔

اور ہماری شریعت مطہرہ میں بیٹے کو باپ کے علاوہ کسی اور طرف منسوب کرنے کحرمت وارد ہے۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے:

لے پالکوں کو ان کے (حقیقی) باپوں کی طرف نسبت کر کے بلاؤ اللہ کے نزدیک پورا انصاف یہی ہے پھر اگر تمہیں ان کے (حقیقی) باپوں کا علم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی اور دوست ہیں، تم سے بھول چوک میں جو کچھ ہو جائے اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں البتہ گناہ اس میں ہے جس کا ارادہ تم دل سے کرو اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا مہربان ہے الاحزاب (5)

اور ابو زر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے:

" جو شخص بھی جانتے بوجہتے اپنی نسبت باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف کرے تو یہ کفر کے علاوہ کچھ نہیں، اور جو شخص کسی قوم میں سے ہونے کا دعویٰ کرے اور وہ ان میں سے نہ ہو تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے "

صحیح بخاری حدیث نمبر (3317) صحیح مسلم حدیث نمبر (61) .

حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں:

" بعض شارحین کا کہنا ہے: یہاں مطلقاً کفر بیان کرنے کا سبب یہ ہے کہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، گویا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے فلاں کے پانی (نطفہ) سے پیدا کیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں؛ کیونکہ وہ تو کسی دوسرے سے پیدا شدہ ہے۔

دیکھیں: فتح الباری (12 / 55) .

اور ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے:

" سب سے بڑا جھوٹ اور بہتان یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کرے "

صحیح بخاری حدیث نمبر (3318) .

اور ایک دوسری حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کچھ اس طرح ہے:

" جس کسی نے بھی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کی تو اس پر جنت حرام ہے "

صحیح بخاری حدیث نمبر (4072) صحیح مسلم حدیث نمبر (63) .

خلاصہ یہ ہوا کہ:

زنا سے پیدا شدہ بچہ - چاہے زنا کرنے والے مسلمان ہوں یا غیر مسلم - زانی کی طرف منسوب نہیں ہو گا، بلکہ وہ اپنی ماں کی جانب منسوب ہو گا، چنانچہ یہ نئی مسلمان بہن جس حالت میں ہے وہ صحیح ہے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو کہ وہ عورت کی طرف نہیں بلکہ مرد کی طرف ضرور منسوب ہو تو پھر اس کے لیے - ضرورت کی بنا پر - ممکن ہے کہ کسی غیر معین اور غیر معروف آدمی کی طرف منسوب ہو جائے، بلکہ وہ کوئی مختلف مرکب نام اختیار کر کے اس کی طرف منسوب ہو جائے، اور اس کے لیے خاوند کی طرف منسوب ہونا جائز نہیں۔

واللہ اعلم .